

# یہ آپ پر منحصر ہے ، نیویارک ذمہ داری سے سماجی تعلقات نبھائیے

اپنا تحفظ کیجیے • ایک دوسرے کا خیال رکھیے • اپنی کمیونٹی کی دیکھ بھال کیجیے

گھر سے باہر کھانا کھانے کی ہدایات:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• چہرے کو ڈھانپنے کی کوئی چیز پہنیں ہمیشہ چہرے کو ڈھانپنے کی کوئی چیز پہنیں، <u>ماسوائے</u> جب آپ نشست پر تشریف رکھتے ہوں اور کھا یا پی رہے ہوں۔</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہجوم نہ بنائیں کاروباری جگہوں کے سامنے ہجوم نہ بنائیں یا چلنے کے راستوں کو نہ روکیں۔ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا یاد رکھیں۔</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہمسائیگی کا احترام کریں اپنی آوازوں اور موسیقی کو مدہم رکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہاں بھی لوگ رہتے ہیں۔</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• شاید اب آپ بیٹھے ہوں لوگوں کو شاید اب بیرونی میز پر بیٹھے ہوئے کھانا اور مشروبات پیش کئے جارہے ہوں، یا "ہمراہ لے جائیں، باہر نہ گھومیں" ہی جاری ہو۔ کسی ایک پارٹی کے 10 لوگوں سے زیادہ کے گروہ کو ایک ہی میز پر نہیں بیٹھنا چاہیئے۔</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقامی کاروباروں کی حفاظت کریں ہدایات کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اپنی پسندیدہ جگہ کو جرمانوں، خلاف ورزیوں، یا اپنا مشروب کا لائسنس گنوانے کے خطرے سے دوچار مت کیجیے۔</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• گھر سے باہر تمام کھانے پینے کی جگہوں کو <b>11 بجے شام تک بند ہوجانا چاہیے۔</b></li> </ul>	

Mayor's Office  
of Media and  
Entertainment

**NYC**  
Office of Nightlife

ٹیسٹ کروائیے: تمام پانچ بوروز میں COVID-19 کی ٹیسٹنگ کے مقامات موجود ہیں۔  
کوئی سائٹ تلاش کرنے کے لئے، [nyc.gov/covidtest](https://nyc.gov/covidtest) ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

تازہ ترین معلومات کے لئے، [nyc.gov/coronavirus](https://nyc.gov/coronavirus) ملاحظہ کریں

6.22.2020